

لَنْ (حَرْفُ نَفْيٍ وَ نَصْبٍ وَ اسْتِقْبَالٍ)

Lun (The Particle for Negation for Future)

چار نواصب المضارع (نصب دینے والے حروف) میں سے ایک حرف "لَنْ" کے قواعد اس سبق میں پڑھیں گے۔

لَنْ کو (حَرْفُ نَفْيٍ وَ نَصْبٍ وَ اسْتِقْبَالٍ) کہتے ہیں۔

One of the four Nawasibul Mudare (which give a nasab) is the particle 'Lun'. Lun is called 'Herf Nafin wa Nasbin wa Istiqbaalin'.

آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی کی نفی کے لیے حرف نفی "مَا" اور فعل مضارع کی نفی کے لیے حرف نفی "لَا" استعمال ہوتا ہے۔

لیکن فعل مضارع میں مستقبل میں نفی کے لیے فعل مضارع سے پہلے حرف "لَنْ" کا استعمال ہوتا ہے۔

We have learnt that the negative particle used with the Madi (past tense) is 'Ma' and that used with the Mudare (present tense) is 'La'. Now we learn that the negative particle used with the Mudare (future tense) is 'Lun'.

لَنْ فعل مضارع میں لفظی اور معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔

Lun brings changes in Mudare both word wise as well as meaning wise.

1: لفظی طور پر لَنْ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔

Word wise, Lun makes Fail Mudare accusative, i.e. Mansoob.

2: معنوی طور پر لَنْ فعل مضارع میں تاکید کے ساتھ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اسے **نَفْيِ تَاكِيدِ بِلَنْ** کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ

(ہرگز نہیں) کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔

Meaning wise, Lun gives a sense of negation with emphasis. It is called 'Nafi Takeed Billun'. It is translated as 'never'.

3: اور لَنْ کے آنے سے فعل مضارع کا معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔

Secondly, Lun specifies the Mudare for future.

نوٹ: یاد رہے فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے مستقبل کی علامت حروف "س" یا "سوف" استعمال ہوتے

ہیں۔ لیکن جب فعل مضارع سے پہلے حرف لَنْ آئے گا تو "س" یا "سوف" کا استعمال نہیں ہوگا۔ لَنْ ہی نفی کے ساتھ مستقبل کا

معنی بھی دے گا۔

Note: It is to be noted that the particles of futurity (seen and saufa) are omitted when Lun is used as Lun gives the meaning of futurity along with negation.

﴿لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ (18:14)

ہم اس کے سوا ہر گز نہیں کسی اور معبود کو پکاریں گے

Never will we invoke besides Him any deity.

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا﴾ (5:24)

انہوں نے کہا: اے موسیٰ! جب تک وہ لوگ اس (سرزمین) میں ہیں ہم ہر گز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے

They said, "O Moses, indeed we will not enter it, ever, as long as they are within it

﴿لَنْ نَنْفَعَكَ أَوْلَادُكَ وَرِشْتَدَارِيكَ، وَلَا نَنْفَعُكَ أَوْلَادُكَ وَرِشْتَدَارِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (60:3)

تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں، اور اولاد تمہیں قیامت کے دن ہر گز نہ فائدہ دیں گی

Never will your relatives or your children benefit you; the Day of Resurrection

فعل مضارع منصوب بَلَنَ

وہ ہر گز نہیں جائے گا (واحد مذکر) (He/m) will never go.	لَنْ يَذْهَبَ فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ الفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ الفَاعِلُ صَمِيئٌ مُسْتَبْتَرٌ تَقْدِيمُهُ هُوَ	هُوَ
وہ ہر گز نہیں جائیں گے (تثنیہ مذکر) (They 2/m) will never go.	لَنْ يَذْهَبَا فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ حَذْفُ نُونِ الفَاعِلِ صَمِيئٌ بَلَزِ الألف	هُمَا
وہ ہر گز نہیں جائیں گے (مذکر جمع) (They all/m) will never go.	لَنْ يَذْهَبُوا فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ حَذْفُ نُونِ الفَاعِلِ صَمِيئٌ بَلَزِ الواو	هُمْ
وہ ہر گز نہیں جائے گی (واحد مؤنث) (He/f) will never go.	لَنْ تَذْهَبَ فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ الفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ الفَاعِلُ صَمِيئٌ مُسْتَبْتَرٌ تَقْدِيمُهُ هِيَ	هِيَ
وہ ہر گز نہیں جائیں گیں (تثنیہ مؤنث) (They 2/f) will never go.	لَنْ تَذْهَبَا فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ حَذْفُ نُونِ الفَاعِلِ صَمِيئٌ بَلَزِ الألف	هُمَا
وہ ہر گز نہیں جائیں گیں (مؤنث جمع) (They all/f) will never go.	لَنْ يَذْهَبْنَ فعل مضارع مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ نَصْبِ الفَاعِلِ صَمِيئٌ بَلَزِ النُّونَ النِّسْوَةَ	هُنَّ
تم ہر گز نہیں جاؤ گے (واحد مذکر) You m) will never go.	لَنْ تَذْهَبَ فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ الفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ الفَاعِلُ صَمِيئٌ مُسْتَبْتَرٌ تَقْدِيمُهُ أَنْتَ	أَنْتَ
تم دو ہر گز نہیں جاؤ گے (تثنیہ مذکر) (You 2/m) will never go.	لَنْ تَذْهَبَا فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ حَذْفُ نُونِ الفَاعِلِ صَمِيئٌ بَلَزِ الألف	أَنْتُمَا
تم سب ہر گز نہیں جاؤ گے (جمع مذکر) (You all/m) will never go.	لَنْ تَذْهَبُوا فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ حَذْفُ نُونِ الفَاعِلِ صَمِيئٌ بَلَزِ الواو	أَنْتُمْ
تم ہر گز نہیں جاؤ گی (واحد مؤنث) (You f) will never go.	لَنْ تَذْهَبِي فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامَةٌ نَصْبِهِ حَذْفُ نُونِ الفَاعِلِ صَمِيئٌ بَلَزِ الياءَ أَنْتِ	أَنْتِ

<p>تم ہرگز نہیں جاؤ گی (تثنیہ مونث)</p> <p>(You 2/f) will never go.</p>	<p>لَنْ تَذَهَبَا</p> <p>فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامة نَصْبِهِ حَذْفُ نُونِ الْفَاعِلِ صَمِيمٌ بِلِزَالِ نُونِ الْاَلِفِ</p>	<p>أَنْتُمَا</p>
<p>تم سب ہرگز نہیں جاؤ گی (جمع مونث)</p> <p>(You all/f) will never go.</p>	<p>لَنْ تَذَهَبْنَ</p> <p>فعل مضارع مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ نَصْبِ الْفَاعِلِ صَمِيمٌ بِلِزَالِ نُونِ النِّسْوَةِ اَنْتُنَّ</p>	<p>أَنْتُنَّ</p>
<p>میں ہرگز نہیں جاؤ گا/گی (مونث، مذکر)</p> <p>I/m,f) will never go.</p>	<p>لَنْ أَذْهَبَ</p> <p>فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامة نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ الْفَاعِلِ صَمِيمٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ أَنَا</p>	<p>أَنَا</p>
<p>ہم ہرگز نہیں جائیں گے (مونث، مذکر)</p> <p>(We/m,f) will never go.</p>	<p>لَنْ نَذْهَبَ</p> <p>فعل مضارع مَنْصُوبٌ علامة نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ الْفَاعِلِ صَمِيمٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ نَحْنُ</p>	<p>نَحْنُ</p>